



اُس کے کل کی کامیابی کو
اپنی آج کی بچت یقینی بنائیے

آپ اپنے بچوں کا مستقبل کا لُج گئے بنا سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن انہیں تیار کرنے سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو معاشی حساب سے تیار کرنا ہوگا۔ آپ کے بچے کی کالج کی پڑھائی شاید آپ کے کئے گئے اخراجات میں سے سب سے زیادہ بڑی ہو سکتی ہے۔ ایجوکیٹر ایک طویل مدتی پلان ہے جو کہ نظم و ضبط کے ساتھ آپ کے بچے کی اعلیٰ تعلیم کیلئے بچت کرنے کا طریقہ مہیا کرتا ہے۔

یہ آپ کو ایک دی گئی مدت میں یکمشت فنڈ جمع کرنے میں مدد کرتا ہے۔ جو کہ آپ کے بچے کی اعلیٰ تعلیم کیلئے استعمال ہو سکتی ہے اور اس طرح آپ کا ”ہر پل محفوظ“ بنادیتی ہے۔

فوائد:

- ”ایجوکیشن کنٹری نیوٹن“ بینیفٹ
- ”چوائس آف لائف“ بینیفٹ
- ”ایجوکیشن سپورٹ“ بینیفٹ
- حادثاتی موت اور معذوری بینیفٹ
- فیڈ ایکسلریشن پریمیم
- افراط زر کا تحفظ
- بچتوں تک رسائی
- جزوی اخلا
- مکمل سرینڈر

اضافی فوائد:

- انکم بینیفٹ
- پریمیم کی چھوٹ
- ایڈیشنل ٹرم اشورنس
- فری لُک پریڈ

پالیسی، شرائط و اہلیت:

کم سے کم حد عمر:	
18 سال (اگلی سالگرہ کے وقت)	
زیادہ سے زیادہ حد عمر:	
65 سال (اگلی سالگرہ کے وقت)	
کم سے کم پالیسی کی مدت:	10 سال
زیادہ سے زیادہ پالیسی کی مدت:	25 سال
تمتھیل زیادہ سے زیادہ حد عمر:	75 سال

ادائیگی کے طریقے:

- سالانہ
- سہ ماہی
- ششماہی
- ماہانہ

چارجز:

- انویسٹمنٹ مینجمنٹ چارجز: ماہانہ فنڈ کی ویلیو 0.125 فیصد
- بڈ/آفرا سپریڈ: 5 فیصد نیٹ ریوگولر کنٹری بیوشن
- ایڈمنسٹریشن فیس: 30 روپے ماہانہ

بنیادی پریمیم ایلوکیشن:

پالیسی کے پہلے سال سے، آپ کا ادا کردہ پریمیم کا ایک حصہ آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا جائے گا۔ حصے کا تناسب مندرجہ ذیل ہے۔

پالیسی کا سال	مختص فیصد
1	40%
2	80%
3 اور آگے	100%
11 سال سے	105%

فری لُک پریڈ:

یہ پلان آپ کو 14 دن کا فری لُک پریڈ مہیا کرتا ہے جس میں آپ ای ایف یو لائف سے رابطہ کر کے اپنی پالیسی (بیمہ) کو منسوخ کر سکتے ہیں اور آپ کی ادا کی گئی پریمیم آپ کو واپس ادا کر دی جائے گی۔ لیکن قانون کے مطابق کچھ چارجز کی کوٹنی ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ بیمہ خریدنے کے دوران معائنے کے لئے چارجز وغیرہ۔

ڈسکلیمر: (دست برداری)

- ایم سی بی بینک، ای ایف یو لائف کے لئے ایک تقسیم کار کے طور پر کام کر رہا ہے اور یہ کسی بھی طرح سے گارنٹی/کسٹمر اسکے فائدہ اٹھانے والے/والوں/یا کسی بھی اور تیسرے فریق کا ذمہ داری نہیں۔
- ایم سی بی ڈیریم ویڈنگ پلان کی تمام درخواستیں ای ایف یو لائف کے زیر دستخطی ہدایت کے مطابق عملدرآمد اور منظور کی جاتی ہیں۔ ایم سی بی بینک کسی بھی طرح سے ان درخواستوں پر عملدرآمد اور منظوری کا ذمہ دار نہیں۔
- یہ کتابچہ پالیسی میں مہیا کردہ فوائد کا صرف تعارف مہیا کرتا ہے۔ تفصیلی وضاحت کے لئے کہ معاہدہ کیسے کام کرتا ہے۔ قواعد و ضوابط میں دیا گیا ہے۔

EFU LIFE ASSURANCE LTD.

EFU Life House, Plot No.112, 8th East Street,
Phase 1, DHA, Karachi, Pakistan.

Phone: (021) 111-EFU-111 (111-338-111)

Fax: (021) 34535079

Website: www.efulife.com